

فرض عین

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله

الاستفتاء: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ فرض عین کیا ہے اور کون کونسی چیزیں فرض عین کے تحت آتی ہیں۔

سائل: بلال لیسٹر۔ انگلینڈ

بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

فرض عین ایک شرعی اصطلاح ہے اور فرض عین وہ ہے جس کا ادا کرنا ہر عاقل و بالغ مسلمان پر ضروری ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں جیسا کہ اللہ عزوجل کو ایک ماننا اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان لانا اور جو کچھ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں، صدق دل سے اس کو سچا ماننا ہر ہر امتی پر "فرض عین" ہے آپ کی اطاعت اور آپ کے احکام کے آگے سر تسلیم خم کر دینا ہر امتی پر "فرض عین" ہے۔ مسلمان پر اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت "فرض عین" ہے۔

ہر مسلمان کے لئے قیامت پر ایمان لانا "فرض عین" ہے کہ ایک دن یہ زمین آسمان بلکہ کل عالم اور سارا جہان فنا ہو جائے گا۔ اسی دن کا نام "قیامت" ہے۔

(المعتقد المنتدع المعتمد المستند، من اقر بالجنة والنار والحشر لکن اولها... الخ، ص ۱۸۰)

ضروریات دین یعنی فرائض و واجبات کا علم حاصل کرنا تو ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت پر "فرض عین" ہے۔

[بہشت کی کنجیاں 56 و فتاوی رضویہ]

" اتنی تجوید (سیکھنا) کہ ہر حرف دوسرے حرف سے صحیح ممتاز ہو "فرض عین" ہے۔

(فتاوی رضویہ ج ۳ ص ۲۵۳ مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن لاہور)

ایک آیت کا حفظ کرنا ہر مسلمان مکلف پر "فرض عین" ہے۔

[بہار شریعت حصہ 3 ص 545]

پانچ نمازیں اور جمعہ "فرض عین" ہے

[بہار شریعت حصہ 4 ص 762]

نماز کی طرح روزہ بھی "فرض عین" ہے اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر۔ [جنتی زیور ص 347]

اگر کفار ہجوم کر آئیں تو اس وقت جہاد "فرض عین" ہے یہاں تک کہ عورت اور غلام پر بھی فرض ہے

[بہار شریعت حصہ 9 ص 427]

شہادت فرض کفایہ ہے بعض نے کر لیا تو باقی لوگوں سے ساقط اور دو ہی شخص ہوں تو "فرض عین" ہے۔ خواہ تحمل ہو یا ادا یعنی گواہ بنانے کے لیے بلائے گئے یا گواہی دینے کے لیے دونوں صورتوں میں جانا ضروری ہے۔

[بہار شریعت حصہ 12 ص 931]

اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہے۔ جسے ایک ہی تحریر میں ضبط کرنا مشکل ہے۔

واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری

WHAT IS FARD ‘AYN?

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله

Question:

What do the scholars of the Din and muftis of the Sacred Law state regarding the following issue: what is fard ‘ayn? What things are included in it?

Questioner: Bilal from Leicester, UK

Answer:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الجواب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

Fard ‘ayn is a shar’i (Islamic legal) terminology. It is that which is incumbent upon every sane and mature Muslim. There are many examples of this, like, believing that Allah جل جلاله is one, believing in the prophethood and messengership of Sayyiduna Muhammad صلى الله عليه وسلم and truly believing in whatever he صلى الله عليه وسلم has brought from Allah جل جلاله is fard ‘ayn upon every Muslim. Following the Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم and accepting his commandments is fard ‘ayn upon every Muslim. Loving Allah جل جلاله and His Messenger صلى الله عليه وسلم is fard ‘ayn upon every Muslim.

It is fard ‘ayn upon every Muslim to believe in the Qiyamah (Resurrection), that one day the earth and the sky, and in fact the entire Universe shall perish. This day is known as the Day of Qiyamah. (al-Mu’taqad al-Muntaqad ma’ al-Mu’tamad al-Mustanad, pg. 180)

It is fard ‘ayn upon every sane and mature Muslim male and female to acquire knowledge of the necessities of the Din, i.e. fard (obligatory) and wajib (compulsory). (Bahisht ki Kunjiyan, pg. 56, Fatawa Ridawiyyah)

It is fard ‘ayn to learn that amount of Tajwid (articulation) by which the pronunciation of every (Arabic) letter is distinguishable from that of every other letter. (Fatawa Ridawiyyah, vol. 3, pg. 253)

It is fard ‘ayn upon every mukallaf (accountable Muslim) to memorise one verse of the Noble Qur’an. (Bahar-e Shari’at, part 3, pg. 545)

The daily five prayers and the Friday prayer are fard ‘ayn. (Bahar-e Shari’at, part 4, pg. 762)

Fasting (during the month of Ramadan), like Salah, is fard ‘ayn. Denying its obligation is kufr (disbelief). (Jannati Zewar, pg. 347)

If the disbelievers gather and attack (the Muslims), it is fard 'ayn to perform jihad (religious struggle) to defend themselves and fight back, so much so that it is fard upon women and slaves too. (Bahar-e Shari'at, part 9, pg. 427)

Bearing witness is a fard kifayah (collective obligation), i.e. if some people do it, others are relieved of its obligation. If only two people are present, then it is fard 'ayn upon them. It is necessary for them to participate either they be called for making witness or for giving testimony. (Bahar-e Shari'at, part 12, pg. 931)

Apart from this, there are many things that are fard 'ayn and it is very difficult to include everything in this answer.

والله تعالى اعلم ورسوله اعلم صلى الله عليه وآله وسلم
كتبه ابو الحسن محمد قاسم ضياء قادري

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri

Translated by the SeekersPath Team